

## وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَلْ صَالِحًا

اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اعمالِ صالحہ کرے گی

تُوْتِيَهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿۳۳﴾

تو ہم اسے اس کا اجر دو گنا دیں گے اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ

اے نبی کی بیویو! تم دوسری عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہو اگر تم متقی بن کر رہو،

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

تو بولنے میں آواز پست مت کرو کہ کہیں لالچ کرنے لگے وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہو

وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَقَدْرَ فِي بُيُوتِكُنَّ

اور بات وہ کرو جو بھلائی والی ہو۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو

وَلَا تَبْرَحْنَ تَبْرِجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ

اور پہلی والی جاہلیت کے طرز پر بناؤ سنگھار کو کھلا مت رہنے دو اور نماز قائم کرو

وَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ

اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو صرف یہ

اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اے اہل بیت! اور تمہیں پاک

تُطَهِّرًا ۚ وَاذْكُرْنَ مَا يُثَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ

صاف رکھے۔ اور یاد کرو اس کو جو تلاوت کیا جاتا ہے تمہارے گھروں میں

مِنَ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿۳۴﴾

اللہ کی آیات اور حکمت میں سے۔ یقیناً اللہ باریک بین، باخبر ہے۔

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں

وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ

اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ

اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں

وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّبِغَاتِ

اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں

وَالْحُفَظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا

اور جو مرد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جو عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہیں اور جو مرد اللہ کو بہت

وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿۳۵﴾

زیادہ یاد کرنے والے ہیں اور جو عورتیں اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی ہیں۔ اللہ نے اُن کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ مِّن مَّرءٍ أَوْ مَرْءَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

اور کسی مؤمن مرد اور مؤمن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملہ کا

أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ

فیصلہ کر دے تو اُن کے لیے اپنے معاملہ میں کچھ بھی اختیار ہو۔ اور جو اللہ اور

اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا ﴿۳۶﴾

اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی گمراہی میں بھٹک گیا۔

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ

اور جب آپ فرما رہے تھے اس شخص کو کہ جس پر اللہ نے انعام فرمایا اور آپ نے بھی اس پر انعام فرمایا کہ

عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ

تو اپنی بیوی اپنے پاس رہنے دے اور اللہ سے ڈر حالانکہ آپ اپنے جی میں چھپا رہے تھے وہ جس کو اللہ

مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۗ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ

ظاہر کرنے والا تھا اور آپ انسانوں سے ڈرتے تھے۔ اور اللہ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔

فَأَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ

پھر جب زید بن حارثہ نے زینب سے حاجت پوری کر لی تو ہم نے زینب آپ کے نکاح میں دے دی، تاکہ ایمان

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ مِّنْهُ إِذَا قَضَوْا

والوں پر کوئی حرج نہ رہے اُن کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جب وہ اُن سے

مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿۳۷﴾ مَا كَانَ

غرض پوری کر لیں۔ اور اللہ کے حکم کو تو پورا ہونا ہی تھا۔ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) پر کوئی

عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ

بتنگی نہیں اس میں جو (خود) اللہ نے اُن کے لیے مقدر کر دیا۔ اللہ کا دستور رہا ہے

فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا

ان (پیغمبروں) میں بھی جو پہلے گذر چکے ہیں۔ اور اللہ کا امر قضا و قدر پورا

مَقْدُورًا ۚ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ

ہو کر ہی رہتا ہے۔ پیغمبر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں

وَ يَخْشَوْنَهُ ۗ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور اللہ حساب لینے والا

حَسِيبًا ۚ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ

کافی ہے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں،

وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے خاتم ہیں۔ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے

عَلِيمًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا

والے ہیں۔ اے ایمان والو! تم اللہ کی یاد بہت زیادہ

كَثِيرًا ۚ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۚ هُوَ الَّذِي

کیا کرو۔ اور اس کی تسبیح کرو صبح و شام۔ وہی اللہ ہے جو

يُصَلِّيٰ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ

تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ اللہ تمہیں اندھیروں سے نور کی

إِلَى النُّورِ ۗ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۚ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ

طرف نکالے۔ اور وہ ایمان والوں پر بہت زیادہ شفقت والا ہے۔ اُن کا تحیہ جس دن

يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۗ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۚ يَا أَيُّهَا

وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگا۔ اور اللہ نے اُن کے لیے عزت والا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اے

النَّبِيِّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا ۗ وَمُبَشِّرًا ۗ وَنَذِيرًا ۚ

نبی! یقیناً ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گواہی دینے والا اور بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا۔

وَدَاعِيًا ۗ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ ۗ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۚ وَبَشِّرِ

اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے دعوت دینے والا اور نور پھیلانے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایمان

الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَرِيمًا ۚ وَلَا

والوں کو بشارت دیجیے اس بات کی کہ اُن کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ اور

تُطِيعَ الْكُفْرَيْنَ وَالْمُنْفِقِينَ وَدَعُ أَذْهَمَ وَتَوَكَّلْ

کافروں اور منافقین کا کہنا نہ مانے اور اُن کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اس کی پروا نہ کیجیے اور اللہ پر

عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿۵۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

توکل کیجیے۔ اور اللہ کافی کارساز ہے۔ اے ایمان والو!

إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ

جب تم نکاح کرو ایمان والی عورتوں سے، پھر تم اُن کو طلاق دو اس سے پہلے

أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۚ

کہ تم اُن کو چھوؤ تو تمہارے لیے اُن پر کوئی عدت نہیں جس کو تم شمار کرو۔

فَمِعْوَهُنَّ وَسِرْجُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿۶۰﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا

تو تم اُن کو کچھ متاع دے دو اور اچھی طرح رخصت کر دو۔ اے نبی! ہم نے

أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَحْوَرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ

آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال کی ہیں جن کو آپ مہر دے چکے ہیں اور آپ کی مملوکہ باندیاں بھی جو اللہ

بِمَيْمَنِكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَدَّتْ عَمَّكَ وَبَدَّتْ عَمَّتِكَ

نے آپ کو نعمت میں سے دلوائی ہیں اور حلال کی ہیں آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں

وَبَدَّتْ خَالَكَ وَبَدَّتْ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ۚ

اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالوں کی بیٹیاں، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔

وَ أَمْرًا مَوْمِنَةً ۚ إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ

اور وہ مؤمن عورت جو اپنی ذات نبی کو ہبہ کر دے اگر نبی اُن کو نکاح

أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ

میں لینا چاہیں۔ یہ صرف آپ ہی کے لیے ہے، نہ کہ عام مؤمنین کے لیے۔

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ

یقیناً ہمیں معلوم ہے جو ہم نے اُن پر فرض کیا ہے اُن کی بیویوں اور اُن کی باندیوں کے

أَيْمَانُهُمْ لَكَيْلًا يَكُونُ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

بارے میں تاکہ آپ پر کچھ بھی تنگی نہ رہے۔ اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا،

رَحِيمًا ﴿۶۱﴾ تَرْجِي مَنِ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَيِّ إِلَيْكَ مَنْ

نہایت رحم والا ہے۔ آپ دور رکھیں جسے چاہیں اُن میں سے اور اپنے پاس رکھیں جسے

تَشَاءُ ۛ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ

چاہیں۔ اور جس کو آپ چاہیں اُن میں سے جن کو آپ نے الگ رکھا تھا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ تَقْرَءَ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحِزْنَ وَيَرْضَيْنَ

یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں اور وہ سب خوش رہیں

بِمَا اَنْتَهُنَّ كُلهُنَّ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۚ

اس پر جو آپ نے اُن کو دیا۔ اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿۱۰﴾ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْۢ بَعْدِ

اور اللہ علم والے، حلم والے ہیں۔ آپ کے لیے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں

وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ

اور نہ یہ کہ آپ اُن کے بدلہ میں اور دوسری بیویاں لائیں اگرچہ اُن کا حسن آپ کو اچھا لگے،

اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

مگر آپ کی مملوکہ باندیاں۔ اور اللہ ہر چیز پر

رَقِيْبًا ﴿۱۱﴾ يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتِ

نگراں ہے۔ اے ایمان والو! داخل مت ہو نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حجرے

النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نٰظِرِيْنَ

میں مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی طرف اجازت دی جائے اس حال میں کہ تم اس کے پینے کا انتظار کرنے

اِنَّهٗ ۙ وَّلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِبْتُمْ

والے نہ ہو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تب تم داخل ہو، پھر جب تم کھا چکو

فَاَنْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَأْسِنِيْنَ لِحَدِيْثٍ ۚ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ

تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں دل لگا کر کے مت بیٹھو۔ یقیناً یہ چیز نبی اکرم (صلی اللہ علیہ

يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَجِيْ مِنْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَجِيْ

وسلم) کو ایذا پہنچاتی ہے، پھر وہ تم سے حیا کرتے ہیں۔ اور اللہ حق سے حیا

مِنَ الْحَقِّ ۚ وَاِذَا سَأَلْتَهُمْ مَّنَاعًا فَاسْأَلُوْهُمِّنْ مِنْ وَّرَآءِ

نہیں کرتا۔ اور جب امہات المؤمنین سے تمہیں کوئی چیز مانگی ہو، تو پردہ کے پیچھے سے اُن سے

رِحَابٍ ۚ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَ قُلُوْبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ

سوال کرو۔ یہ چیز تمہارے دلوں کے لیے اور اُن کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی والی ہے۔ اور

لَكُمْ أَنْ تُوذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ

تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایذا دو اور جاڑ نہیں ہے یہ کہ تم آپ (صلی اللہ

مِنْ بَعْدِهِ أَبْدَاءً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿۵۱﴾

علیہ وسلم) کی بیویوں سے نکاح کرو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد کبھی بھی۔ یقیناً یہ اللہ کے نزدیک بڑی چیز ہے۔

إِنْ تُبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تُحْفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ تو یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے

عَلِيمًا ﴿۵۲﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ

ہیں۔ عورتوں پر کوئی گناہ نہیں (بے ججاب آنے میں) اُن کے باپ دادا کے بارے میں اور نہ اُن کے بیٹوں کے بارے میں

وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا ابْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا ابْنَاءَ

اور نہ اُن کے بھائیوں کے بارے میں اور نہ اُن کے بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں اور نہ اُن کی بہنوں کے بیٹوں کے

أَخْوَانِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۝

بارے میں اور نہ اُن کی (میل جول کی) عورتوں کے بارے میں اور نہ اُن کے بارے میں جن کے اُن کے ہاتھ مالک ہیں۔

وَاتَّقِينَ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿۵۳﴾

اور تم اللہ سے ڈرو۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) پر۔ اے ایمان

أَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿۵۴﴾ إِنَّ الَّذِينَ

والو! تم بھی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر درود اور سلام کثرت سے پڑھو۔ یقیناً وہ لوگ

يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا

جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ نے اُن پر دنیا اور آخرت میں لعنت

وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿۵۵﴾ وَالَّذِينَ

کی ہے اور اُن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ

يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا كُتِبَ لَهُمْ

ایذا پہنچاتے ہیں ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اس کے بغیر کہ انہوں نے قصور کیا ہو،

فَقَدْ أَحْضَرُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿۵۶﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ

تو یقیناً انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اے نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ اپنی ازواج

لَا تَزَوَّجَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْرِنِينَ عَلَيْهِنَّ

مطہرات سے اور اپنی بیٹیوں اور مؤمنین کی عورتوں سے فرمادیجئے کہ وہ اپنے چہرے پر اپنی چادر کا کچھ حصہ

مَنْ جَلَّابِيْبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ

لٹکائے رکھیں۔ یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے، پھر انہیں ایذا نہ دی جائے۔

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ لَيْنٌ لَّمْ يَنْتَهَ الْبُغْفُورُونَ

اور اللہ بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اگر منافق مرد اور وہ لوگ

وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ

جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں انواہیں پھیلانے والے ہیں باز نہیں آئیں گے

لَنْعُرِبَنَّاكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۝

تو ہم آپ کو ان کے خلاف بھڑکادیں گے، پھر وہ مدینہ منورہ میں آپ کے پڑوسی بن کر ٹھہر نہیں سکیں گے مگر تھوڑا۔

مَلْعُونِينَ ۖ أَيَنَّمَا تُقْفُونَ أَخْذُوا وَقْتِكُمَا تُقْتَلُونَ ۝

اُن پر پھٹکار ہو۔ جہاں کہیں ملیں گے، پکڑ لیے جائیں گے اور انہیں ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا۔

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَكِنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ

اللہ کا دستور رہا ہے اُن کے بارے میں جو پہلے گذر چکے ہیں۔ اور اللہ کی سنت میں آپ کوئی تبدیلی

اللَّهُ تَبْدِيلًا ۖ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۗ قُلْ

ہرگز نہیں پائیں گے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ فرمادیجئے کہ

إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ

اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور آپ کو معلوم نہیں کہ شاید قیامت قریب

قَرِيبًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۝

ہی ہو۔ یقیناً اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور اُن کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔

خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کوئی دوست اور مددگار نہیں پائیں گے۔

يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يٰلَيْتَنَا أَطَعْنَا

جس دن اُن کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت

اللَّهُ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ۖ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا

کرتے اور ہم رسول کی اطاعت کرتے۔ اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہم نے اپنے سرداروں اور

<p>وَ كِبْرَاءَنَا فَاصْلُونَا السَّبِيلَةَ ﴿٦٥﴾ رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ اپنے بڑوں کی اطاعت کی، تو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا راستہ سے۔ اے ہمارے رب! تو انہیں دوگنا</p>	ع ۵
<p>مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عذاب دے اور تو اُن پر بڑی لعنت فرما۔ اے ایمان</p>	
<p>اٰمِنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَاذْرَاهُ اللهُ والو! تم اُن جیسے مت بنو جنہوں نے موسیٰ (علیہ السلام) کو ایذا دی، پھر اللہ نے موسیٰ (علیہ السلام) کو بری فرما</p>	ع ۵
<p>وَمِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيْهًا ﴿٦٧﴾ يَا أَيُّهَا دیا اس سے جو انہوں نے کہا۔ اور موسیٰ (علیہ السلام) اللہ کے نزدیک وجاہت والے تھے۔ اے</p>	
<p>الَّذِيْنَ اٰمِنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٦٨﴾ ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔</p>	ع ۵
<p>يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا۔</p>	
<p>وَمَنْ يُطِيعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٦٩﴾ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یقیناً وہ بھاری کامیابی سے کامیاب ہو گیا۔</p>	ع ۵
<p>اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَ عَلٰى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یقیناً ہم نے امانت پیش کی آسمانوں اور زمین</p>	
<p>وَالجِبَالِ فَابِيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا اور پہاڑوں پر، تو ان سب نے انکار کیا اس کے اٹھانے سے اور وہ ڈرے اس سے</p>	ع ۵
<p>وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ﴿٧٠﴾ اِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ﴿٧١﴾ اور اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ یقیناً وہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے۔</p>	
<p>لِيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو</p>	ع ۵
<p>وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبُ اللهُ عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ اور اللہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی توبہ قبول کرے۔</p>	
<p>وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٢﴾ اور اللہ بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔</p>	ع ۵



الْيَاغَا ۵۳

(۳۲) سُورَةُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (۵۸)

رُكُوْعَاتُهَا ۶

اس میں ۵۳ آیتیں ہیں

سورۃ سبک میں نازل ہوئی

اور ۶ رکوع ہیں

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهٗ

تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ملک ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں

الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْحَمِيْدُ ۝ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ

اور اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں آخرت میں۔ اور وہ حکمت والا، باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے اُن چیزوں کو جو

فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمٰوٰءِ

زمین میں داخل ہوتی ہیں اور جو زمین سے نکلتی ہیں اور جو آسمان سے اترتی ہیں

وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ۝ وَقَالَ الَّذِيْنَ

اور جو آسمان میں چڑھتی ہیں۔ اور وہ نہایت رحم والا، بخشنے والا ہے۔ اور کافر لوگ کہتے

كَفَرُوْا لَآ تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ ۗ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۙ

ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ فرمادیجیے، کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم جو غیب کا علم رکھتا ہے

عِلْمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ

وہ تم پر ضرور آئے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز مخفی نہیں آسمانوں میں

وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَا اَصْغُرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا اَكْبَرُ

اور نہ زمین میں اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز مگر وہ صاف صاف بیان کرنے والی

الَّا فِي كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

کتاب (لوح محفوظ) میں ہے۔ تاکہ اللہ بدل دے اُن لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔

اُوْلٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝ وَالَّذِيْنَ سَعَوْ

اُن کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں میں

فِي الْاٰيٰتِنَا مُعْجِزِيْنَ ۙ اُوْلٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رَّجْحٍ اَلِيْمٍ ۝

کوشش کرتے ہیں ہرانے والے بن کر اُن کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہوگا۔

وَيَذٰى الَّذِيْنَ اٰوْتُوْا الْعِلْمَ الَّذِيْٓ اُنزِلَ اِلَيْكَ

اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ قرآن جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے

مَنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ۖ وَ يَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ  
اتارا گیا، وہ حق ہے۔ اور یہ قرآن زبردست قابل تعریف اللہ کے راستہ کی طرف رہنمائی

الْحَمِيدِ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ  
کرتا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کیا ہم تمہیں پتہ بتلائیں ایسے شخص کا جو

يُذَيِّبُكُمْ إِذَا مُرِّقْتُمْ كُلَّ مُمْرِقٍ ۖ إِنَّكُمْ لَفِي  
تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم پورے طور پر نکلے نکلے (ریزہ ریزہ) کر دیے جاؤ گے تب تم نئے سرے

حَاقٍ جَدِيدٍ ۚ أَفَتَزِي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ حِجَّةٌ ۚ  
سے زندہ کیے جاؤ گے؟ یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے یا اسے جنون ہے۔

بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ  
بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں اور دور والی گمراہی

الْبُعِيدِ ۝ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ  
میں ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں اُن چیزوں کو جو اُن کے آگے اور اُن کے پیچھے ہیں

مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ تَشَاءُ نَحْشِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ  
آسمان اور زمین۔ اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں زمین میں دھسا دیں

أَوْ نَسُوطَ عَلَيْهِمْ كَسَفَا مِنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ  
یا ہم اُن پر آسمان سے نکلے گرا دیں۔ یقیناً اس میں البتہ نشانی ہے

لَايَةٍ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّسِيَّبٍ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ  
ہر توبہ کرنے والے بندہ کے لیے۔ اور ہم نے داؤد (علیہ السلام) کو ہماری طرف سے فضل (نبوت)

مِنَّا فَضْلًا ۚ يُجِبَالٍ أَوْ يَبَا ۚ وَمَا تَسْبِحُ بِحَمْدِ اللَّهِ ۚ وَاللَّيْلُ لَهُ  
حکومت (ہم نے کہا) اے پہاڑو! تم اُن کے ساتھ تسبیح کرو اور پرندوں کو بھی حکم دیا۔ اور ہم نے اُن کے لیے

الْحَمْدَ ۚ أَنْ أَعْمَلُ سَبِيغَتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا  
لوہے کو نرم کیا۔ کہ آپ چوڑی زرہیں بنائیے اور میٹھی لگانے میں مقدار متعین رکھئے اور تم سب نیک عمل

صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ۚ وَلَسَلِيمِنَ الرِّيحِ  
کرتے رہو۔ یقیناً میں تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان (علیہ السلام) کے لیے ہوا کو تابع کیا،

عُدُّوْهَا شَهْرٌ وَسَرَوَاحَهَا شَهْرٌ ۚ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ  
ہوا کا صبح کے وقت کا سفر ایک مہینہ کی مسافت اور اس کا شام کے وقت کا سفر ایک مہینہ کی مسافت طے کرتا تھا۔ اور ہم نے

الْقَطْرِ ۖ وَمَنْ اِجْتَنَ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهِ ۖ

اُن کے لیے تانبے کا چشمہ بہایا۔ اور جنات میں سے وہ بھی تھے جو اُن کے سامنے اُن کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے۔

وَمَنْ يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿۱۷﴾

اور اُن میں سے جو ہمارے حکم سے ٹیڑھا چلے گا تو ہم اسے دہکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ ۖ وَ تَمَاشِيْلٍ وَجَفَافٍ

وہ سلیمان (علیہ السلام) کے لیے بناتے تھے وہ چیزیں جو سلیمان (علیہ السلام) چاہتے، یعنی قلعے اور مورتیاں اور تالاب

كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رُسِيَّتٍ ۖ اَلْ اَعْمَلُوْا اِلَ دَاوُدَ شُكْرًا ۖ

جیسے لگن اور ایک ہی جگہ ثابت رہنے والی اونچی اونچی دیگیں۔ اے آل داؤد! شکر کیے کے طور پر عمل کرو۔

وَ قَلِيْلٌ ۚ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِيْنَ ﴿۱۸﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ

اور میرے بندوں میں سے کم شکر گزار ہیں۔ پھر جب ہم نے اُن کی موت کا فیصلہ کر دیا

اَلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهِ اِلَّا دَابَّةٌ اَلْ اَرْضِ تَاْكُلُ

تو جنات کو سلیمان (علیہ السلام) کی موت کا پتہ نہیں بتلایا مگر زمین کے کیڑے (گھن) نے جو آپ کی

مَسَاكِنَهُ ۚ فَلَمَّا خَضَّ تَبَيَّنَّتِ الْجَنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ پھر جب سلیمان (علیہ السلام) گر پڑے، تب جنات نے جانا کہ اگر وہ (جن) غیب

الْغَيْبِ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿۱۹﴾ لَقَدْ كَانَ

جانتے ہوتے تو وہ رسوا کرنے والے عذاب میں نہ رہتے۔ تحقیق کہ قوم سب کے لیے

لِسَبَاٍ فِي مَسْكِنِهِمْ اَيَّهٖ جَنَّتٍ عَنْ يَمِيْنٍ وَ شِمَالِهٖ

اُن کے وطن میں نشانی تھی۔ دو باغات تھے دائیں اور بائیں۔

كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوْا لَهٗ ۖ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ

تو تم کھاؤ اپنے رب کی روزی میں سے اور اس کا شکر ادا کرو۔ شہر بھی عمدہ

وَ رَبِّ غَفُوْرٌ ﴿۲۰﴾ فَاعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرْمِ

اور رب بھی بخشنے والا۔ پھر انہوں نے اعراض کیا، تو ہم نے اُن پر بند کا سیلاب چھوڑ دیا،

وَ بَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِيْ اَكْلِ خَبْطٍ وَ اَنْثَلٍ

اور ہم نے اُن کو اُن دو باغ کے عوض بد مزہ پھل والے دوسرے دو باغ دیے اور جھاؤ کے درخت

وَ شَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ﴿۲۱﴾ ذٰلِكَ جَزٰٓئُهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ۗ

اور تھوڑی سی بیری کے درخت۔ ہم نے انہیں اُن کے کفر کی وجہ سے یہ سزا دی۔

وَهَلْ يُجِزِي إِلَّا الْكُفُورَ ۝ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ

اور ہم سزا نہیں دیتے مگر نا شکری کرنے والے کو۔ اور ہم نے اہل سبأ اور اُن بستیوں کے

الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا فُرُى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا

درمیان جن میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں ایسی بستیاں بنادی تھیں جو نظر آتی تھیں، اور ہم نے اُن میں سفر کی

السَّبِيلَ سَيَرُوا فِيهَا لِيَالِي ۝ وَأَيَّامًا أَمِينِينَ ۝ فَقَالُوا

منزلیں متعین کر دی تھیں۔ کہ تم ان میں رات میں اور دن میں امن سے چلو۔ تو انہوں نے کہا

رَبَّنَا بَعُدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ

اے ہمارے رب! ہمارے سفروں کے درمیان دوری کر دے اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، پھر ہم نے انہیں کہانیاں

أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزِقٍ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

بنادیا اور ہم نے انہیں مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں

لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمُ ابْنُ آدَمَ

ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ اور یقیناً اُن پر ابلیس نے اپنا گمان سچ کر

طَلْتَهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا قَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا كَانَ

دکھایا، پھر وہ ابلیس کے پیچھے چلے سوائے ایمان والوں کے گروہ کے۔ اور ابلیس کا

لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطٰنٍ إِلَّا لَنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ ۝

ایمان والوں پر جو تسلط ہے، صرف اس لیے ہے تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے،

مَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۝ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۝

اس سے جو اس کی طرف سے شک میں ہے۔ اور آپ کا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ

آپ فرما دیجیے کہ تم پکارو اُن کو جن کا تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا۔ وہ نہ آسمان

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ

میں ذرہ برابر کے مالک ہیں اور نہ زمین میں، اور نہ اُن کی آسمان اور زمین

فِيهِمَا مِنْ شَرِكٍ ۝ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظٰهِرٍ ۝ وَلَا تَنْفَعُ

(کے بنانے) میں کوئی شرکت ہے اور اُن میں سے کوئی اللہ کا مددگار نہیں۔ اور سفارش اللہ کے

السَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۝ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنِ

نزدیک نفع نہیں دے گی مگر اسی کی جس کو اللہ اجازت دے۔ یہاں تک کہ جب اُن کے دلوں سے گھبراہٹ

قُلُوْبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ  
دور ہو جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کہی۔ اور وہ برتر ہے،

الْكَبِيرُ ﴿۱۷﴾ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ  
بڑا ہے۔ آپ پوچھئے کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟

قُلْ اللّٰهُ ۗ وَاِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هٰدٰى اَوْ فِى ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱۸﴾  
آپ ہی فرما دیجیے اللہ۔ اور ہم یا تم ضرور یا ہدایت پر ہیں یا گھلی گمراہی میں ہیں۔

قُلْ لَّا سَعٰوُنَ عَمَّا اٰجْرَمْنَا وَلَا نَسْتَعُوْٓنُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۹﴾  
آپ فرما دیجیے کہ تم سے ہمارے جرائم کو سوال نہیں ہوگا اور تمہارے اعمال کے متعلق ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔

قُلْ يٰۤاٰجِبُ بَيْنِنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۗ وَهُوَ الْفَتّٰحُ  
آپ فرما دیجیے کہ ہمارا رب ہمیں اکٹھا کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق کو کھول دے گا۔ اور وہ بہت زیادہ کھولنے والا

الْعَلِيْمُ ﴿۲۰﴾ قُلْ اَرۡوٰى الَّذِيْنَ اَلْحَقَمۡتُمْ بِهٖۤ اَشْرَكَآءَ كَلٰٓءِ  
ہے، خوب جاننے والا ہے۔ آپ فرما دیجیے کہ تم مجھے دکھاؤ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر مالتے ہو۔ ہرگز نہیں۔

بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲۱﴾ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً  
بلکہ وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت

لِّلنّٰسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ۗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۲﴾  
دینے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۲۳﴾  
اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو۔

قُلْ لَكُمْ مِّبْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً  
آپ فرما دیجیے کہ تمہارے لیے ایک دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی تم پیچھے رہ سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی

وَلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿۲۴﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُؤْمِنَ بِهٰذَا  
آگے جا سکتے ہو۔ اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس

الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَكُوْنَتۡرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ  
قرآن پر اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے تھیں۔ اور کاش کہ آپ دیکھیں جب کہ ظالم

مَوْفُوْقُوْنَ عِنْدَ رَبِّهٖمۡ ۗ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ  
کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے۔ ان میں سے ایک دوسرے کی طرف بات کو ڈال

<p>الرُّقُولَ ۚ يَقُولَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا رہا ہوگا۔ کمزور لوگ کہیں گے اُن سے جو بڑے بن کر رہے</p>
<p>لَوْلَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۝ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے۔ جو بڑے بن کر رہے وہ کمزوروں</p>
<p>لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا اَنْحَنُ صَدَدْنَكُمْ عَنِ الْهُدٰى سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا</p>
<p>بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلٌ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آئی؟ بلکہ تم ہی مجرم تھے۔ اور کمزور لوگ</p>
<p>اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الْيَلِّ وَالنَّهَارِ کہیں گے اُن سے جو بڑے بن کر رہے بلکہ رات اور دن کے مکر (نے روکا)،</p>
<p>اِذْ تَامُوْنَ تَا اَنْ تَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجَعَلْ لَهٗ اَنْدَادًا جب تم ہمیں حکم دیتے تھے اس کا کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور ہم اس کے لیے شریک ٹھہرائیں۔</p>
<p>وَ اَسْرُوْا التَّدَامَةَ لَمَّا رَاُوْا الْعَذَابَ ۚ وَجَعَلْنَا الْاَعْمَلَّ اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے۔ اور ہم طوق رکھ دیں گے</p>
<p>فِيْ اَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوْا ۗ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا کافروں کی گردنوں میں۔ انہیں سزا نہیں دی جائے گی مگر انہیں کاموں کی جو وہ</p>
<p>يَعْمَلُوْنَ ۝ وَمَا اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ تٰذِيْرٍ اِلَّا قَالِ کرتے تھے۔ اور ہم نے کسی بستی میں ڈرانے والا رسول نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال</p>
<p>مُتْرَفُوْهَا اِنَّا بِمَا اَرْسَلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝ وَقَالُوْا نَحْنُ لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہم تو کفر کرتے ہیں اس کے ساتھ جس کو دے کر تم بھیجے گئے ہو۔ اور کہا کہ ہم</p>
<p>اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۗ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۝ قُلْ اِنَّ رَبِّيْ زیادہ مال اور اولاد والے ہیں۔ اور ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ آپ فرما دیجیے یقیناً میرا رب</p>
<p>يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، لیکن اکثر لوگ</p>
<p>لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَمَا اَمْوَالُكُمْ وَّلَا اَوْلَادُكُمْ بِاِلٰهِيْ جانتے نہیں۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں جو تمہیں ہمارا زیادہ</p>

تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ

مقرب بنا دیں، مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، تو ان

لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرْفَتِ آمِنُونَ ﴿۳۰﴾

کے لیے ان کے عمل کی دوگنی جزاء ہوگی اور وہ بالاخانوں میں امن سے ہوں گے۔

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ

اور جو کوشش کر رہے ہیں ہماری آیتوں میں ہرانے والے بن کر، یہ لوگ عذاب میں حاضر

مُحْضَرُونَ ﴿۳۱﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ

کیے جائیں گے۔ آپ فرمادیجیے یقیناً میرا رب روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے

مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ

اپنے بندوں میں سے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اور جو چیز بھی تم خرچ کرو تو وہ

يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۳۲﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا

اس کا بدل دیتا ہے۔ اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا،

ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿۳۳﴾

پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟

قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوا

تو وہ کہیں گے کہ آپ پاک ہیں، آپ ہمارے کارساز ہیں نہ کہ وہ۔ بلکہ یہ لوگ

يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۚ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿۳۴﴾ فَالْيَوْمَ

تو جنات کی عبادت کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر جنات پر ایمان بھی رکھتے تھے۔ تو آج

لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفَعًا وَلَا ضَرًّا ۚ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ

تم میں سے ایک دوسرے کے لیے نفع اور ضرر کے مالک نہیں۔ اور ہم کہیں گے ظالموں

ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكذَّبُونَ ﴿۳۵﴾

سے کہ تم اس آگ کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔

وَإِذَا تَنَادَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ

اور جب ان پر ہماری صاف صاف آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر نہیں ہے مگر ایک آدمی

يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنَّا كَمَا كَانَ يَصُدُّ آبَاؤَكُمْ ۚ وَقَالُوا

جو چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے ان معبودوں سے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ اور یہ کہتے ہیں

مَا هَذَا إِلَّا إِنْكَارُ مَا كَفَرُوا بِالْحَقِّ ۖ

کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر جھوٹ جو گھڑ لیا گیا ہے۔ اور کافر لوگ حق کے متعلق کہتے ہیں جب حق

لَنَا جَاءَهُمْ ۚ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۳۱﴾ وَمَا آتَيْنَهُمْ

اُن کے پاس آیا کہ یہ تو محض صاف جادو ہے۔ اور ہم نے انہیں

مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ

کتابیں نہیں دیں جن کو وہ پڑھیں اور ہم نے اُن کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا رسول

مِنْ نَذِيرٍ ﴿۳۲﴾ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا بَلَّغُوا مَعَشَارَ

نہیں بھیجا۔ اور اُن لوگوں نے کبھی جھٹلایا جو اُن سے پہلے تھے۔ اور یہ اُن کے دسویں حصہ کو بھی نہیں پہنچے

مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۳۳﴾ قُلْ

جو ہم نے انگوں کو دیا تھا، پھر انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ پھر میرا عذاب کیسا تھا؟ آپ فرما

إِنَّمَا أَعْطَمَكُم بَوَاحِدَةٍ ۚ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَىٰ وَفَرَادَىٰ

دیکھیے میں تمہیں صرف ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو اور تنہا تنہا،

ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ ۚ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ

پھر تم سوچو کہ تمہارے ساتھی (نبی) کو کچھ جنون نہیں ہے۔ وہ تو صرف تمہارے لیے ایک سخت

بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿۳۴﴾ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ

عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ آپ فرما دیجیے میں نے جو اجر تم سے مانگا ہو

فَهُوَ لَكُمْ ۚ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

وہ بھی تمہارے لیے ہے۔ میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ اور وہ ہر چیز پر

شَهِيدٌ ﴿۳۵﴾ قُلْ إِنْ رَبِّي يَعْزِبُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴿۳۶﴾

نگراں ہے۔ آپ فرما دیجیے کہ میرا رب حق کو ڈالتا ہے۔ وہ چھپی ہوئی چیزیں خوب جانتا ہے۔

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ ۚ وَمَا يُبْدِيهِ الْبَاطِلُ ۚ وَمَا يُعِيدُهُ ﴿۳۷﴾ قُلْ

آپ فرما دیجیے کہ حق آ گیا اور باطل نہ پہلے کچھ کر سکتا تھا اور نہ دوبارہ کچھ کر سکا۔ آپ فرما دیجیے

إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضَلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۚ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ

اگر میں گمراہی پر ہوں تو میری ذات ہی پر میری گمراہی ہے۔ اور اگر میں ہدایت پر ہوں

فَمَا يُوَجِّئُنِي إِلَىٰ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿۳۸﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغْنَا

تو اس کی وجہ سے ہے جو میری طرف میرا رب وحی کر رہا ہے۔ یقیناً وہ سننے والا قریب ہے۔ اور کاش آپ دیکھتے جب یہ گھبرا ئیں گے



فَلَا قُوَّةَ وَأَخْذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ۝ وَقَالُوا إِنَّمَا  
تو پھر چھوٹ نہیں سکیں گے اور قریبی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اور وہ کہیں گے کہ ہم قرآن پر

بہ ۶۶ ۝ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ۝  
ایمان لے آئے۔ اور اُن کے ہاتھ (ایمان تک) دور جگہ سے کہاں پہنچ سکتے ہیں؟

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ  
حالانکہ وہ اس کے ساتھ اس سے پہلے کفر کرتے رہے۔ اور وہ بے تحقیق بائیں دور ہی دور سے

بَعِيدٍ ۝ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ  
ہانکا کرتے تھے۔ اور اُن کے درمیان اور اُن کی خواہشات کے درمیان آڑ کر دی جائے گی جیسا کہ اُن

بِأَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّبِينٍ ۝  
کے ہم مسلکوں کے ساتھ اس سے پہلے کیا گیا۔ بے شک وہ بڑے بھاری شک میں تھے۔

۱۱۱۱۱۱۱۱

(۲۵) مِثْوَالًا فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (۲۳)

۱۱۱۱۱۱۱۱

اور ۵ رکوع ہیں

سورۃ فاطر مکہ میں نازل ہوئی

اس میں ۲۵ آیتیں ہیں

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔

أَلْحَدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ  
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر

رُسُلًا ۙ اُولٰٓئِیْ اٰجْحٰتٍ مِّثْنٰی وَتِلْكَ وَرَبِّعٌ یَّرْبِیْدُ فِی الْخَلْقِ  
بھیجتے والا ہے جو فرشتے دو دو اور تین تین اور چار چار پر والے ہوتے ہیں۔ پیدائش میں زیادتی کرتا ہے

مَا یَشَآءُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝ مَا یَفْتَحُ اللّٰهُ  
جتنی چاہتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ اللہ انسانوں کے

لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ ۚ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا یُمْسِكُ ۙ  
لیے رحمت کھول دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور جو روک دے

فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهَا ۚ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝  
تو اللہ کے بعد اس کو کوئی بھیج نہیں سکتا۔ اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔

یٰۤاٰیُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ ۗ هَلْ مِنْ  
اے انسانو! یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے۔ کیا اللہ کے سوا

خَالِقِ عَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ  
کوئی پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہو؟ کوئی معبود نہیں

إِلَّا هُوَ ۚ فَاَلَيْ تَتُوفَكُونَ ۖ وَإِن كُذِّبُوكُمْ  
مگر وہی۔ پھر تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں

فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۖ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۖ  
تو آپ سے پہلے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا۔ اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے۔

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَغْرَبَكُمُ الْحَيَوةُ  
اے انسانو! یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر تمہیں دنیوی زندگی دھوکے میں

الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغْرَبَكُم بِاللَّهِ الْعُرُوزُ ۖ إِن الشَّيْطَانَ  
نہ ڈالے۔ اور تمہیں اللہ سے دھوکے باز (شیطان) دھوکے میں نہ ڈالے۔ یقیناً شیطان

لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا  
تمہارا دشمن ہے، تو تم اسے دشمن سمجھتے رہو۔ وہ اپنی جماعت کو بلاتا ہے تاکہ وہ

مِن أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۖ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ  
دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت

شَدِيدٌ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ  
عذاب ہے۔ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے مغفرت ہے

وَآجْرٌ كَبِيرٌ ۖ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا  
اور بڑا اجر ہے۔ کیا پھر وہ شخص جس کے لیے اس کی بد عملی مزین کی گئی، پھر وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے (یاد اور مؤمن جو اسے برا

فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ ۖ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۖ  
سمجھتا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟) تو یقیناً اللہ گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
پھر ان پر افسوس کے باعث آپ کی جان نہ نکل جائے۔ بے شک اللہ کو معلوم ہے

بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُشِيرُ  
جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ بادل کو

سَابَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ  
اڑاتی ہیں، پھر ہم اس کو ہابک کر لے جاتے ہیں خشک زمین کی طرف، پھر ہم اس سے زمین کو زندہ کرتے ہیں

بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿۱۰﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ

اس کے ختم ہو جانے کے بعد۔ اسی طرح قبروں سے اٹھنا بھی ہوگا۔ جو عزت چاہتا

الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۖ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ

ہے تو اللہ ہی کے لیے ہے ساری عزت۔ اسی کی طرف پاکیزہ کلمے

الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۗ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ

چڑھتے ہیں اور نیک عمل اُن کو بلند کرتے ہیں۔ اور جو بری تدبیریں

السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ

کرتے ہیں اُن کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اُن کا مکر ناکام

يَبُورُ ۗ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ

ہوگا۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، پھر نطفہ سے،

ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ

پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا۔ اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ جنتی ہے

إِلَّا بِعِلْمِهِ ۗ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ

مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور کسی عمر والے کو عمر نہیں دی جاتی اور نہ اس کی عمر میں سے کم

مِنْ عُمُرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۱۱﴾

کیا جاتا ہے مگر وہ لوح محفوظ میں ہے۔ یہ اللہ پر آسان ہے۔

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ۚ هَٰذَا عَذَابٌ فَرَاتٍ سَابِغٌ شَرَابُهُ

اور دو سمندر برابر نہیں ہیں۔ یہ میٹھا، پیاس بجھاتا ہے، اس کا پینا خوشگوار ہے،

وَهَٰذَا مَلْحٌ أُجَاجٌ ۚ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا

اور یہ نمکین کڑوا ہے۔ اور ہر ایک میں سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت

وَأَسْتَخْرَجُونَ حَلِيَّةً يَتْلُبْنَ سَوْتَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ

اور تم نکالتے ہو زیور جس کو تم پہنتے ہو۔ اور آپ کشتی کو دیکھو گے اس میں

مَوَآخِرَ لِيَتَّبَعُوا ۚ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَعَلَّامٌ لِّمَا تُكْسِرُونَ ﴿۱۲﴾

موجوں کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔

يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ ۖ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ وَ

وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اور

سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ

اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے۔ سب کے سب چلتے رہیں گے وقت مقررہ تک کے لیے۔

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۗ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ

یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے سلطنت ہے۔ اور جن کو تم پکارتے ہو

مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْبِيرٍ ۗ إِنْ تَدْعُوهُمْ

اس کے سوا وہ کھجور کی گٹھلی کے غلاف کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اگر تم اُن کو پکارو

لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ۖ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۗ

تو وہ تمہاری پکار سنتے نہیں۔ اور اگر وہ سنیں بھی تو تمہیں جواب نہیں دے سکیں گے۔

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۗ وَلَا يُنَبِّئُكَ

اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ اور تمہیں باخبر کی طرح کوئی

مِثْلُ خَبِيرٍ ۗ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ

خبر نہیں دے سکتا۔ اے انسانو! تم محتاج ہو

إِلَى اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ هُوَ الْعَنِيُّ ۗ الْحَمِيدُ ۗ إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ

اللہ کی طرف۔ اور اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے

وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۗ

اور نئی مخلوق کو لے آئے۔ اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ

اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی بوجھ لدا ہوا اس کے اٹھانے کو

إِلَىٰ جَمَلٍهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ

(کسی کو) بلائے تو کچھ بوجھ بھی اس میں سے اٹھایا نہیں جا سکتا اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔

إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا

آپ تو صرف اُن کو ڈراتے ہیں جو اپنے رب سے بے دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم

الصَّلَاةَ ۗ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ

کرتے ہیں۔ اور جو تزکیہ کرے گا تو صرف اپنی ہی ذات کے فائدہ کے لیے تزکیہ کرے گا۔

وَالِإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۗ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ

اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔

وَلَا الظُّلُمْتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿۱﴾  
اور اندھیرے اور نور برابر نہیں ہو سکتے۔ اور سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتی۔

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ  
اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ یقیناً اللہ سنا تے ہیں

مَنْ يَشَاءُ ﴿۲﴾ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿۳﴾ إِنَّ أَنْتَ  
جسے چاہتے ہیں۔ اور آپ اُن کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ آپ تو صرف

إِلَّا نَذِيرٌ ﴿۴﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا  
ڈرانے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو حق دے کر بشارت دینے والا، ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے۔

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿۵﴾ وَإِنْ يَكْذِبُونَكَ فَقَدْ  
اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو اُن

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ  
لوگوں نے بھی جھٹلایا جو اُن سے پہلے تھے۔ جن کے پاس اُن کے پیغمبر روشن معجزات

وَالزُّبُرِ ﴿۶﴾ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿۷﴾ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ  
اور لکھی ہوئی کتابیں اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ پھر میں نے کافروں کو

كُفْرًا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۸﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ  
پکڑ لیا، پھر میرا عذاب کیسا تھا؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَآخَرَجْنَا بِهِ شَجَرَاتٍ مُخْتَلِفًا  
سے پانی اتارا۔ پھر ہم نے اس سے پھلوں کو نکالا جن کے رنگ

أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ  
مختلف ہیں۔ اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں جن کے رنگ

أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿۹﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ  
مختلف ہوتے ہیں اور کچھ گہرے سیاہ ہوتے ہیں۔ اور انسانوں میں سے اور چو پاؤں میں سے

وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ  
اور جانوروں میں بھی اسی طرح مختلف رنگ کے (پیدا کیے)۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے

مَنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴿۱۰﴾ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿۱۱﴾ إِنَّ  
صرف علم والے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ یقیناً

الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا

جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں

مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً

اس میں سے جو ہم نے انہیں روزی کے طور پر دیا ہے چپکے اور علانیہ، وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی

لَنْ تَبُورَ ۚ لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۗ

جو برباد نہیں ہوگی۔ تاکہ اللہ انہیں اُن کے ثواب دے اور انہیں اپنے فضل سے مزید دے۔

إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

یقیناً وہ بخشنے والا، قردان ہے۔ اور وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف

مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

وحی کی وہ حق ہے، سچا بتلانے والی ہے اُن کتابوں کو جو اس سے پہلے تھیں۔ یقیناً اللہ

بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ

اپنے بندوں سے باخبر ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا اُن کو جنہیں

اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۗ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۗ وَمِنْهُمْ

ہم نے منتخب کیا ہمارے بندوں میں سے۔ پھر اُن میں سے کوئی تو اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ اور اُن میں سے

مُتَّقِدٌ ۗ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۗ يُأْذِنُ اللَّهُ ذَٰلِكَ

کوئی میانہ رو ہے۔ اور اُن میں سے کوئی نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ

هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝ جَدَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا

بڑا فضل ہے۔ جنات عدن میں وہ داخل ہوں گے،

يُخْلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۗ وَلِبَاسُهُمْ

وہاں انہیں سونے کے ننگن اور موئی پہنائے جائیں گے۔ اور اُن کا لباس

فِيهَا حَرِيرٌ ۝ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا

اُن میں ریشم کا ہوگا۔ اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم

الْحَزْنَ ۗ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۝ الَّذِي أَحَلَّنَا

دور کر دیا۔ یقیناً ہمارا رب بہت زیادہ بخشنے والا، قردان ہے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں

دَارَ الْمَقَامَةِ مِن فَضْلِهِ ۗ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا

ہمیشہ کے گھر میں اپنے فضل سے اتارا۔ جس میں نہ ہمیں رنج پہنچے گا اور نہ

يَمْسَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿۶۰﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۖ  
تھکاوت پہنچے گی۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں اُن کے لیے جہنم کی آگ ہے۔

لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمِوتُهُمْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ  
اُن کے متعلق فیصلہ نہیں ہوگا کہ وہ مر جائیں، اور نہ اُن سے آگ کا عذاب ہلکا

مَنْ عَذَابُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿۶۱﴾ وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ  
کیا جائے گا۔ اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو سزا دیں گے۔ اور وہ اس میں چیخ

فِيهَا ۚ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا  
رہے ہوں گے۔ اے ہمارے رب! تو ہمیں نکال کہ ہم نیک عمل کریں اس کے علاوہ جو ہم

نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نَعْبُدْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَ  
کرتے تھے۔ (تو کہا جائے گا) کیا ہم نے تمہیں عمریں نہیں دی تھیں جس میں نصیحت حاصل کر سکتا تھا جو نصیحت

جَاءَكُمْ التَّذْيِيرُ ۚ فَذُوقُوا ۚ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿۶۲﴾  
حاصل کرتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا؟ پھر تم چکھو۔ پھر ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ  
یقیناً اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جاننے والا ہے۔ یقیناً اسے دلوں

بِدَاتِ الصُّدُورِ ﴿۶۳﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ  
کے حال کا بھی علم ہے۔ اس نے تمہیں زمین میں جانشین

فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۚ وَلَا يُزِيدُ الْكَافِرِينَ  
بنایا۔ پھر جو کفر کرے گا، تو اسی پر اس کے کفر کا وبال پڑے گا۔ اور کافروں کا کفر اُن کے

كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يُزِيدُ الْكَافِرِينَ  
رب کے یہاں غصہ ہی کو بڑھاتا ہے۔ اور کافروں کو اُن کا کفر

كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿۶۴﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ  
خسارہ ہی میں بڑھاتا ہے۔ آپ فرما دیجیے کیا تم نے دیکھا اپنے شرکاء کو اللہ

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا  
کے سوا جن کو تم پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا

مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ۚ أَمْ اتَّكَيْتُمْ كِتَابًا  
زمین میں سے یا اُن کی شراکت ہے آسمانوں میں؟ یا ہم نے انہیں کتاب دی ہے

فَهُمْ عَلَى بَيِّنَاتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَبْغِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ

کہ وہ اس کی وجہ سے روشن راستہ پر ہیں؟ بلکہ یہ ظالم اُن میں سے ایک دوسرے سے وعدہ

بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

نہیں کرتے مگر دھوکے ہی کا۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو گرنے سے تھامے

أَنْ تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكْتُهُمَا مِنْ أَحَدٍ

ہوئے ہے۔ اور اگر وہ گر جائیں تو انہیں اللہ کے بعد کون

مِنْ بَعْدِهِ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۚ وَأَقْسَبُوا بِاللَّهِ جَهْدَ

تھام سکتا ہے؟ یقیناً وہ حلم والا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اور یہ اللہ کی قسمیں کھاتے تھے کچی

أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إْحْدَىٰ

قسمیں کہ اگر اُن کے پاس ڈرانے والا آئے گا تو ضرور ساری امتوں میں سب سے زیادہ ہدایت والے بن

الْأُمَّمِ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۚ

جائیں گے۔ لیکن جب اُن کے پاس ڈرانے والا آیا تو اُن کی نفرت اور بڑھی۔

اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۗ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ

زمین میں تکبر کرنے اور بری تدبیریں کرنے کی بناء پر۔ اور برا مکر اس کے کرنے

السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ

والوں ہی کو ہلاک کرتا ہے۔ کیا پھر پہلے لوگوں کے دستور کے وہ منتظر ہیں؟

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ

پھر آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پاؤ گے۔ اور اللہ کے دستور میں تغیر ہرگز

تَحْوِيلًا ۚ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ

نہ پاؤ گے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ اُن

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ

لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو اُن سے پہلے تھے اور اُن سے زیادہ قوت

قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ

والے تھے؟ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ اسے کوئی چیز عاجز کر سکے آسمانوں میں

وَلَا فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۚ وَلَوْ يُوَاخِذُ

اور نہ زمین میں۔ یقیناً وہ علم والا، قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ



اللَّهُ النَّاسِ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا  
انسانوں کو پکڑے اُن کے اعمال کی وجہ سے تو زمین کی پشت پر کسی جاندار کو

مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ  
نہ چھوڑے، لیکن اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے ایک وقت مقررہ تک۔

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝  
پھر جب اُن کا آخری وقت آجائے گا تو یقیناً اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔

ذُو عَائِشَا

(۳۶) سُورَةُ الْبُرُجِ مَكِّيَّةٌ (۴۱)

آيَاتُهَا ۸۳

اور ۵ رکوع ہیں

سورہ بروج مکہ میں نازل ہوئی

اس میں ۸۳ آیتیں ہیں

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔

### يَسَّ ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

یسس - حکمت والے قرآن کی قسم - یقیناً آپ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں۔

### عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ لِتُنذِرَ قَوْمًا

سیدھے راستہ پر ہیں۔ یہ قرآن زبردست رحمت والے اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو

### مَّا أَنْذَرُوا آبَاءَهُمْ فَلَهُمْ غَفْلُونَ ۝ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ

جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا ہے، اس لیے وہ غافل ہیں۔ یقیناً اُن میں سے اکثر پر قول حق

### عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَلَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا

ثابت ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یقیناً ہم نے اُن کی گردنوں میں طوق رکھ دیے ہیں،

### فَبِهِ إِلَى الْأَذْقَانِ فَلَهُمْ مُّقْمَحُونَ ۝ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ

پھر وہ ٹھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں اور اُن کے سرواٹے ہو رہے ہیں۔ اور ہم نے اُن کے آگے

### أَيْدِيهِمْ سَدًّا ۝ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ

دیوار بنا دی ہے اور اُن کے پیچھے دیوار بنا دی ہے، پھر ہم نے اُن کو ڈھانپ لیا ہے، اس لیے وہ

### لَا يُبْصِرُونَ ۝ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ

دیکھ نہیں سکتے۔ اور اُن پر برابر ہے چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں،

### لَا يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ

وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو اس نصیحت کا اتباع کرے اور رحمن سے بے دیکھے

بِالْعَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَتِي وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿۱۰﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي

ڈرے۔ پھر آپ سے بشارت دیجیے مغفرت اور عزت والے ثواب کی۔ ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے

الْمَوْتِ وَنُكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ

اور ہم لکھ رہے ہیں اُن کے آگے بھیجے ہوئے اعمال اور اُن کے نشاناتِ قدم۔ اور ہر چیز ہم نے محفوظ کر رکھی ہے

فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿۱۱﴾ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ

لوحِ محفوظ میں۔ اور آپ اُن کے لیے مثال بیان کیجیے ایک بستی والوں کی،

إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۱۲﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ

جب اُن کے پاس بھیجے ہوئے آدمی آئے۔ جب ہم نے اُن کی طرف دو رسول بھیجے،

فَكَذَّبُوهُمَا فَعَبَّوْا وَنَالُوا بِآيَاتِنَا فِثْلًا ۚ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿۱۳﴾

تو انہوں نے اُن کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے کو تقویت کے لیے بھیجا، پھر اُن تینوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلَنَا ۚ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ

وہ بولے کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے ایک انسان اور رحمن تعالیٰ نے کچھ بھی

مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿۱۴﴾ قَالُوا رَبَّنَا يُعَلِّمُ

نہیں اتارا۔ تم تو صرف جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے

إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿۱۵﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۱۶﴾

کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ہمارے ذمہ تو صرف صاف پہنچا دینا ہے۔

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجِمَنَّكُمْ

وہ بولے کہ ہم تمہیں منجوس سمجھتے ہیں۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے

وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۷﴾ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ

اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا ملے گی۔ تو وہ تینوں کہنے لگے تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔

إِنِّ ذُكُرِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿۱۸﴾ وَجَاءَ

کیا اگرچہ تمہیں نصیحت کی جائے تب بھی! بلکہ تم ایسی قوم ہو جو حد سے تجاوز کرتے ہو۔ اور شہر کے کنارہ

مِن أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَّسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ

سے ایک آدمی آیا دوڑتا ہوا، اس نے کہا کہ اے میری قوم! تم اُن رسولوں کا اتباع کرو۔

اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۱۹﴾

تم اُن کا اتباع کرو جو تم سے بدلہ نہیں مانگتے اور جو ہدایت یافتہ ہیں۔